

۱۹۲

۱۔ مقدمہ نیکن بر ترجمہ شندرا لاری

۲۔ کارادو و رتوف (Penseurs de l' Islam)

۳۔ Goldziher مقدمہ بر بزرگوار مولانا صاحب

ہر کتاب دراز کا اضافہ ہمیں شکر کہ نیکن ہے کیونکہ اس کا ترجمہ اس قدر عمدہ ہے کہ
ترجمہ ہمیں اس قدر دلچسپی دیتا ہے کہ ہم اس قدر متوجہ ہوتے ہیں کہ اس کی حقیقت کو
اس قدر سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہمیں اس قدر دلچسپی دیتا ہے کہ ہم اس قدر متوجہ ہوتے ہیں
کہ اس کا ترجمہ ہمیں اس قدر دلچسپی دیتا ہے کہ ہم اس قدر متوجہ ہوتے ہیں کہ اس کا ترجمہ
ہمیں اس قدر دلچسپی دیتا ہے کہ ہم اس قدر متوجہ ہوتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہمیں
اس قدر دلچسپی دیتا ہے کہ ہم اس قدر متوجہ ہوتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہمیں
اس قدر دلچسپی دیتا ہے کہ ہم اس قدر متوجہ ہوتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہمیں
اس قدر دلچسپی دیتا ہے کہ ہم اس قدر متوجہ ہوتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہمیں

Mystere و Mysticisme نام دریاں تھیں کہ ہم اس قدر متوجہ ہوتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہمیں

یعنی از اول لفظیات

ترجمہ مولانا صاحب
۱۹۲۲